

برائے فوری اجراء

راجرز سائبر سیکیور کیٹالسٹ کے لیے \$30 ملین کی سرمایہ کاری برامپٹن میں آرہی ہے

ایک اور کایا پلٹ قدم نے انوویشن کوریڈور میں شہر کا مقام کھل کر واضح کر دیا

برامپٹن، آن (14 جون 2019) – آج میئر پیٹرک براؤن نے برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے سائبر سیکیور کیٹالسٹ میں کینیڈا کی حکومت کی جانب سے ایک بڑی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہا، جو سٹی کے ساتھ شراکت داری میں ریٹرنس یونیورسٹی، رائیل بینک آف کینیڈا اور راجرز کمیونیکیشنز آئی این سی کی قیادت میں چلنے والا ایک اقدام ہے۔

محترم نیوڈیپ بینز (Navdeep Bains)، مسٹر آف انوویشن، سائنس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، نے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں راجرز سائبر سیکیور کیٹالسٹ کے قیام کے لیے \$10 ملین کی فنڈنگ دینے کا اعلان کیا۔ راجرز کمیونیکیشنز نے \$10 ملین ڈالر کا وعدہ کیا ہے، سٹی آف برامپٹن نے اگلے پانچ سالوں کے دوران \$5 ملین کا وعدہ کیا ہے اور اس پرکشش ترغیب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رائیل بینک آف کینیڈا نے بھی اس اقدام کے لیے مزید \$5 ملین کا وعدہ کیا ہے۔

یہ پرجوش پیش رفت برامپٹن کو علم اور جدت کا مرکز بنانے کے لیے ریٹرنس یونیورسٹی اور سٹی کے درمیان مسلسل اشتراک کا نتیجہ ہے۔ اس سال نومبر میں برامپٹن سٹی ہال میں کھانے کے لیے طے شدہ، راجرز سائبر سیکیور کیٹالسٹ سائبر سیکورٹی کے موجودہ ماہرین کی مہارتوں میں اضافہ کرنے اور اس شہر اور پورے اونتاریو اور کینیڈا بھر میں سائبر سیکورٹی کی کمپنیوں کی معاونت کرنے پر مرکوز ہو گا۔ ریٹرنس یونیورسٹی برامپٹن ہال میں اپنے چینج اسکول آف کانٹینیوننگ ایجوکیشن کے ذریعے بھی سائبر سیکورٹی کے کورسز کی پیشکش کر رہی ہے۔

یہ اعلان ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں دیگر بڑی حالیہ سرمایہ کاریوں کے بعد کیا جا رہا ہے۔ مئی میں، برامپٹن سٹی کونسل نے [تین کایا پلٹ اقدامات کی منظوری دی](#) ہے، بشمول سنٹر فار انوویشن، ڈاؤن ٹاؤن ٹرانزٹ ٹرمینل اور ہورونٹیریو میں لائٹ ریل ٹرانزٹ۔

اقتباسات

"جبکہ ہم اپنے 2040 ویژن کے حصے کے طور پر مواقع کا ایک شہر بننا جاری ہیں، میں حکومت کینیڈا، راجرز اور رائیل بینک آف کینیڈا کا ریٹرنس یونیورسٹی کی قیادت میں چلنے والے راجرز سائبر سیکیور کیٹالسٹ کی معاونت کرنے اور برامپٹن میں سائبر سیکورٹی کے ایک قومی مرکز کے قیام کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ہم ڈاؤن ٹاؤن کی تمام توانائیوں کو سامنے لانے اور معاشی بڑھوتری اور نوکریوں کو ترجیح دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مشترکہ اقدام کے ساتھ، ہم اس بات کو یقینی بنانے کا مقصد رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سائبر سیکورٹی کے بڑھتے ہوئے عالمی خطرے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قابلیت، وسائل اور تحقیق موجود ہو۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"ہم برامپٹن میں راجرز سائبر سیکیور کیٹالسٹ کی بنیاد رکھنے پر انتہائی مسرور ہیں اور میئر، سٹی کونسل کی حمایت اور سٹی کے عملے کی جانب سے اشتراک اور معاونت پر مشکور ہیں۔ برامپٹن جدت اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا ایک اہم مرکز ہے اور ہم اس شہر کو کینیڈا میں سائبر سیکورٹی میں جدت اور اشتراک کا مرکز بنانے کے لیے برامپٹن کی کاروباری کمیونٹی، بعد از ثانوی تعلیم کے اداروں اور رہائشیوں کے ساتھ قربت میں کام کرنے کے لیے پرامید ہیں۔"

- چارلس فنلے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹوئٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca